

برامپٹن کے ریجنل کونسلر پال ویسیٹے کو AMO کے 2022 تا 2024 تک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں منتخب کر لیا گیا ہے

برامپٹن، آن (18 اگست 2022) – گذشتہ روز 2022 ایسوسی ایشن آف میونسپلٹیز (AMO) کی سالانہ جنرل میٹنگ اور کانفرنس میں، برامپٹن کے ریجنل کونسلر پال ویسیٹے کو AMO بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مدت 2022 تا 2024 تک کے لیے ریجنل اور سنگل ٹائر کاکس کے ممبر کے طور پر منتخب کیا گیا۔

AMO ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جو اونٹاریو کی تقریباً تمام 444 میونسپل حکومتوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ AMO اونٹاریو میں مضبوط اور مؤثر میونسپل حکومتوں کی حمایت کرتا ہے اور اونٹاریو اور کینیڈا کے سیاسی نظام کے ایک اہم اور لازمی جزو کے طور پر میونسپل حکومتوں کی قدر کو فروغ دیتا ہے۔

2022 سے 2024 کی مدت کے دوران، AMO خاص طور پر اقتصادی بحالی اور خوشحالی، منصوبہ بندی اور ترقی، سستی رہائشوں کی فراہمی، بے گھری کے خاتمے، بنیادی ڈھانچے پر سرمایہ کاری، براڈ بینڈ کی توسیع اور عوامی نقل و حمل کی سہولیات سے متعلق معاملات پر توجہ مرکوز کرے گا۔ اس کے علاوہ، AMO سماجی بنیادی ڈھانچے اور پالیسیوں پر توجہ مرکوز کر رہا ہے جو اونٹاریو میں ہر کسی کو اپنی پوری صلاحیت حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ عوامی صحت، کمیونٹی پیرا میڈیسن، طویل مدتی نگہداشت، انسانی خدمات، کمیونٹی کی ذہنی صحت اور نشے کے علاج کی سہولیات میں سرمایہ کاری AMO کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔

سٹی آف برامپٹن نے 14 سے 17 اگست تک AMO 2022 ورچوئل کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ مزید [پہلے](#) جانیں۔

اقتباسات

"برامپٹن سٹی کونسل کی جانب سے، میں کونسلر ویسیٹے کو AMO کے 2022 تا 2024 تک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اونٹاریو بھر کی میونسپلٹیوں کے ساتھ مضبوط اور مؤثر شراکت داری ماحولیاتی طور پر قابل استحکام کمیونٹیز کی تعمیر، ترقی کے مواقع پیدا کرنے اور معیشتوں کو مضبوط تر بنانے کے لیے وکالت کی کوششوں کو آگے بڑھانے میں مدد فراہم کرے گی۔ ایک مضبوط برامپٹن اور پیل ریجن کے لیے کونسلر ویسیٹے کی وابستگی ہمارے رہائشیوں اور تمام AMO اراکین کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہو گی۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"مجھے لگاتار دوسری مدت کے لیے AMO بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے اور میں برامپٹن کی وکالت کرنے اور سٹی اور ریجن کی ترجیحات کو صوبائی سطح پر سامنے لانے کے لیے اونٹاریو کی میونسپلٹیز اور اپنی متعلقہ کونسلوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔"

- پال ویسیٹے، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔



Media Release

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca